

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

شُكْرُ ہے اللہ کا جس نے دُور کیا ہم سے غم، بلاشبہ ہمارا رب ہے معاف فرمانے والا اور قدردان۔

فَاطِر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنا نکالے آسمان وزمین،

جَاعِلِ الْمَلَكِئَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبَعٌ

جس نے ٹھہرائے (مقرر کئے) فرشتے پیغام لانے والے، جنکے پر ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار۔

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

(وہ) بڑھاتا (اضافہ کرتا) ہے پیدائش میں جو چاہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

جو کھول دے اللہ لوگوں پر کچھ مہر (رحمت)، تو کوئی نہیں اسکو روکنے والا۔

وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

اور جو روک رکھے تو کوئی نہیں اسکو بھیجنے والا اسکے سوا،

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَدْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

لوگو! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر،

هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ

کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا؟

يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

روزی دیتا تم کو آسمان اور زمین سے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

کوئی حاکم نہیں مگر وہ۔

فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾

پھر کہاں سے اُلٹے (تم بکائے) جاتے ہو؟

وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ

اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو جھٹلائے گئے کتنے رسول تجھ سے پہلے۔

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾

اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام۔

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ^{صل}

لوگو! بیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک (حق) ہے،

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ^{صل}

سو نہ بہکائے تم کو دنیا کا جینا۔

وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٦٠﴾

اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ^ج

تحقیق (حقیقت میں) شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم سمجھ رکھو اسکو دشمن۔

إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦١﴾

وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی واسطے کہ ہوں دوزخ والوں میں۔

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ^{صل}

جو منکر ہوئے انکو سخت مار ہے،

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٦٢﴾

اور جو یقین لائے اور کئے بھلے کام، انکو ہے معافی اور نیک (اجر) بڑا۔

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ^{صل}

بھلا ایک شخص، کہ بھلی سمجھائی (خوشنما دکھائی) اسکو اسکے کام کی برائی، پھر دیکھا اس نے اسکو بھلا (اچھا)۔

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَمِنْ يَشَاءِ ^{صل}

کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے جسکو چاہے، اور سمجھاتا ہے جسکو چاہے۔

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ۗ

سوئیراجی نہ جاتا رہے (گھلے تیری جان) اُن پر پچھتا پچھتا (حسرت و غم کر) کر۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

اللہ کو سب معلوم ہے جو کرتے ہیں۔

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثُثِرُوا سَحَابًا

اور اللہ ہے جس نے چائیں ہیں باوین (ہوائیں)، پھراُ بھارتیاں ہیں بدلی (بادل)،

فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ

پھر بانک لے گئے ہم اسکو ایک مر گئے دیس (مردہ زمین) کو،

فَإَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ

پھر چالنی (زندہ کی) ہم نے اس سے زمین اسکو مر گئے پیچھے (مرنے کے بعد)۔

كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾

اسی طرح ہے جی اٹھنا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۗ

جسکو چاہئے عزت، تو اللہ کی ہے عزت ساری۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ

اسکی طرف چڑھتا ہے کلام ستر اور کام نیک، اسکو اٹھا لیتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ

اور جو لوگ داؤ میں ہیں برائیوں کے اُٹکوتخت مارے۔

وَمَكْرُؤٌ قَلِيلٌ ۝۱۰

اور انکو دواؤں سے ٹوٹے (خمارہ) کا۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۝۱۱

اور اللہ نے تم کو بنایا (پیدا کیا) مٹی سے، پھر بوند پانی سے، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے۔

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۝۱۲

اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو اور نہ وہ جنتی ہے بن خیر اسکے۔

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۝۱۳

اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں۔

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۱۴

یہ اللہ پر آسان ہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۝۱۵

اور برابر نہیں دو دریا،

هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ ۝۱۶

یہ (ایک) میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے، پیئے میں رچتا،

وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۝۱۷

اور یہ (دوسرا) کھارا کڑوا۔

وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ۝۱۸

اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ، اور نکالتے ہو گہنا (سامان زینت) جسکو پہنتے ہو۔

وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾
 اور تو دیکھے جہاز، اس میں چلتے ہیں پہاڑتے (بیرتے) بنا (کر) تلاش کرو اسکے فضل سے، اور شاید تم حق مانو۔

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

رات پیٹھاتا (داخل کرتا) ہے دن میں اور دن پیٹھاتا (داخل کرتا) ہے رات میں،

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿١٣﴾

اور کام لگا یا سورج اور چاند، ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرائے وعدہ پر (وقت مقرر تک)۔

ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمَلَكُ ﴿١٤﴾

یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے،

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٥﴾

اور جن کو تم پکارتے ہو اسکے سوا مالک نہیں ایک چھلکے کے۔

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ

اگر تم انکو پکارو سنیں نہیں تمہاری پکار۔

وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ﴿١٦﴾

اور اگر سنیں پہنچیں نہیں تمہارے کام پر۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴿١٧﴾

اور دن قیامت کے منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے۔

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٨﴾

اور کوئی نہ بتائے گا تجھ کو، جیسا بتا دے خبر رکھنے والا۔

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ^ط

لوگو! تم ہوجتاج اللہ کی طرف۔

وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

اور اللہ وہی ہے بے پرواہ سب خوبیوں سراہا۔

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾

اگر چاہے تم کو لے جائے اور لے آئے ایک نئی خلقت۔

وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾

اور یہ (کرنے) اللہ پر مشکل نہیں۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ^ح

اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا، بوجھ دوسرے کا،

وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا تُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ^ط

اور اگر پکارے کوئی بوجھوں مرتا (لدا، بوجھ) اپنا بوجھ بٹانے کو، کوئی نہ اٹھائے اس میں سے کچھ، اگرچہ ہوناتے والا۔

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ^ح

تو تو ڈر سنا دیتا ہے انکو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، اور کھڑی رکھتے ہیں نماز۔

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ^ح

اور جو کوئی سنورے گا، تو یہی سنورے گا اپنے بھلے کو،

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

اور اللہ کی طرف ہے پھر (لوٹ) جانا۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٠﴾

اور برابر نہیں اندھا اور دکھتا۔

وَلَا الظُّلْمَتُ وَلَا النُّورُ ﴿١١﴾

اور نہ اندھیرا اور نہ جالا۔

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿١٢﴾

اور نہ سایہ اور نہ لون (دھوپ کی پیش)۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ﴿١٣﴾

اور برابر نہیں جیتے (زندے اور) نہ مرے۔

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ﴿١٤﴾

اور اللہ سنا تا ہے جس کو چاہے۔

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿١٥﴾

اور تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑوں کو۔

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿١٦﴾

تو تو یہی ہے ڈر کی خبر سنانے والا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿١٧﴾

ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا (حق) دین دے کر، اور خوشی اور ڈر سنانا۔

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿١٨﴾

اور کوئی فرقہ (امت) نہیں، جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا۔

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اور اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں، تو آگے جھٹلا چکے ہیں ان سے اگلے (پہلے)۔

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

پہنچے ان پاس رسول انکے، لے کر کھلی باتیں اور ورق (صحیفے) اور چمکتی (روشن ہدایات والی) کتاب۔

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

پھر پکڑا میں نے منکروں کو، تو کیسا ہوا بگاڑ میرا؟

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی۔

فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا

پھر ہم نے نکالے اس سے میوے طرح طرح انکے رنگ۔

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

اور پہاڑوں میں گھانٹیاں ہیں سفید اور سرخ، طرح طرح انکے رنگ، اور بھنگت کالے (گہرے سیاہ)۔

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَكَذَلِكَ

اور آدمیوں میں اور چوپایوں میں کئی رنگ کے ہیں اسی طرح۔

إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اسکے بندوں میں جن کو سمجھ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

تحقیق (بلاشبہ) اللہ زبردست ہے بخشنے والا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی، اور سیدھی (تائم) کرتے ہیں نماز،

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

اور خرچ کیا کچھ ہمارا دیا چھپے اور کھلے،

يَرْجُونَ تَجْرَةً لِّن تَبُورَ ﴿١٦﴾

امید وار ہیں ایک بیوپار کے، جو کبھی نہ ٹوٹے (خسارہ پائے)۔

لِيُؤْفِقَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ

تا (کہ) پورے دے انکو نیک (اجر) اُنکے، اور بڑھتی (زیادہ) دے اپنے فضل سے۔

إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿١٧﴾

تحقیق (بلاشبہ) وہ ہے بخشنے والا قبول کرتا۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ

اور جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب، وہی ٹھیک (حق) ہے سچا (تصدیق) کرتی آپ سے اگلی (پہلی) کو۔

إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿١٨﴾

مقرر (بیشک) اللہ اپنے بندوں سے خبر رکھتا ہے دیکھتا۔

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ

پھر ہم نے وارث کئے کتاب کے وہ، جو چننے ہم نے اپنے بندوں میں سے۔

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۗ

پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا۔

وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ

اور کوئی ان میں ہے بیچ کی چال پر (میاندر)،

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ

اور کوئی ان میں ہے کہ آگے بڑھ گیا، لے کر خوبیاں اللہ کے حکم سے۔

ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿١٢﴾

یہی ہے بڑی بزرگی۔

جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا

باغ ہیں بسنے کے، جن میں جائیں گے وہاں گہنا پہنائے گا انکو نگن سونے کے اور موتی۔

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿١٣﴾

اور انکی پوشاک وہاں ریشمی ہے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ

اور کہیں گے شکر اللہ کا، جس نے دور کیا ہم سے غم۔

إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿١٤﴾

بیشک ہمارا رب بخشتا ہے قبول کرتا۔

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ

جس نے اتارا (ظہرایا) ہم کو رہنے کے (ابدی) گھر میں، اپنے فضل سے۔

لَا يَمْسُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمْسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿١٥﴾

نہ پہنچے اس میں ہم کو کوئی مشقت، اور نہ پہنچے ہم کو اس میں تھکان۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ

اور جو منکر ہیں، انکو ہے آگ دوزخ کی۔

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا

نہ ان پر تقدیر پہنچتی ہے کہ مر جائیں اور نہ ان میں ہلکی ہوتی ہے وہاں کی کچھ کلفت (تکلیف)۔

كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٦٦﴾

یہی سزا دیتے ہیں ہم ہر ناشکر کو۔

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا

اور وہ چلاتے ہیں اس میں،

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

اے رب! ہم کو نکال، ہم کچھ بھلا کام کریں، وہ نہیں جو کرتے تھے۔

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

کیا ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو جتنے میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو؟ اور پہنچا تم کو ڈر سنانے والا۔

فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٦٧﴾

اب چکھو کہ کوئی نہیں گنہگاروں کا مددگار۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ بھید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٨﴾

اس کو خوب معلوم ہے، جو بات ہے دلوں میں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

وہی ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام (خلیفہ) زمین میں،

فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ

پھر جو کوئی ناشکری کرے تو اس پر پڑے اسکی ناشکری۔

وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا

اور منکروں کو نہ بڑھے گا انکے انکار سے، انکے رب کے آگے مگر بیزاری۔

وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٩﴾

اور منکروں کو نہ بڑھے گا انکے انکار سے، مگر نقصان۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

تو کہہ، بھلا دیکھو تو! اپنے شریک جنکو پکارتے ہو اللہ کے سوا۔

أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ

دکھاؤ تو مجھ کو، کیا بنایا انہوں نے زمین میں؟

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

یا کچھ ان کا سا جھا ہے آسمانوں میں؟

أَمْرًا اتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ

یا ہم نے دی ہے انکو کوئی کتاب، سو یہ سندر رکھتے ہیں اس کی؟

بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿١١﴾

کوئی نہیں پر جو بتاتے ہیں گنہگار ایک دوسرے کو، سب فریب ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا

تحقیق اللہ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، کہ ٹل (سُرک) نہ جائیں۔

وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ

اور اگر ٹل (سُرک) جائیں تو کوئی نہ تھام سکے انکو اُسکے سوا۔

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿١٢﴾

وہ ہے تحمل والا بخشتا۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

اور قسم کھاتے تھے اللہ کی تاکید کی (سخت) قسمیں اپنی،

لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ

اگر آئے اُن پاس کوئی ڈرسانے والا، البتہ بہتر راہ چلیں گے اور کسی ایک اُمت سے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿١٣﴾

پھر جب آیا ان پاس ڈرسانے والا، اور زیادہ ہوا اُنکا پدکنا،

أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ

غرور کرنا ملک میں، اور داؤ کرنا برے کام کا۔

وَلَا تَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ

اور برائی کا داؤ اُلئے گا اسی داؤ والوں پر۔

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ

پھر وہی راہ دیکھتے ہیں انگوں کے دستور کی۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ

سو تو نہ پائے گا اللہ کا دستور (سنت) بدلتا۔

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿١٢﴾

اور نہ پائے گا اللہ کا دستور (سنت) ملتا۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں آخر کیسا ہوا انکا جو ان سے پہلے تھے؟

وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

اور تھے ان سے سخت زور میں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ

اور اللہ وہ نہیں جسکو تھکائے کوئی چیز آسمانوں میں نہ زمین میں۔

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿١١﴾

وہی ہے سب جانتا کر سکتا۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ

اور (اگر کہیں) پکڑ کرے اللہ لوگوں کو انکی کمائی (کرتوتوں) پر، نہ چھوڑے زمین کی پیچھے پر ایک بلنے چلنے والا،

وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

پر (وہ) انکو ڈھیل (مہلت) دیتا ہے ایک ٹھہرے ہوئے وعدہ (وقت مقرر) تک۔

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿١٢﴾

پھر جب آیا انکا وعدہ (وقت مقرر)، تو اللہ کی نگاہ میں ہیں اسکے بندے۔

